

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ  
أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتَلَهُمُ الْآنَبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ  
نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ  
أَيْدِيَكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ  
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا  
بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي  
بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن  
قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ  
(184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّقُونَ  
أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ  
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

~~~~~  
(185) لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعَنَّ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ

أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا

يَشْتَرُونَ (187) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا

وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ

بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) وَ لِلَّهِ

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ (189)

~~~~~

Allah hath heard the taunt of those who say: "Truly, Allah is indigent and we are rich!"— We shall certainly record their word and (their act) of slaying the prophets in defiance of right, and We shall say: "Taste ye the chastisement of the scorching fire! "This is because of the (unrighteous deeds) which your hands sent on before ye: for Allah never do injustice to those who serve Him." They (also) said: "Allah took our promise not to believe in a messenger unless He showed us a sacrifice consumed by fire (from heaven)." Say: "There came to you messengers before me, with clear signs and even with what ye ask for: why then did ye slay them, if ye speak the truth?" Then if they reject thee, so were rejected messengers before thee, who came with clear signs, books of dark prophecies, and the book of enlightenment. Every soul shall have a taste of death: and only on the day of judgment shall you be paid your full recompense. Only he who is saved far from the fire and admitted to the garden will have succeeded: for the life of this world is but goods and chattels of deception. Ye shall certainly be tried and tested in your possessions and in yourselves; and ye shall certainly hear much that will grieve you, from those who received the book before you and from those who worship many gods. But if ye persevere patiently, and guard against evil,— then that indeed is a matter of great resolution. And remember Allah took a covenant from the people of the book, to make it known and clear to mankind, and not to hide it; but they threw it away behind their backs, and purchased with it some miserable gain! And vile was the bargain they made! Think not that those who exult in what they have brought about, and love to be praised for what they have not done,— think not that they can escape the chastisement. For them is a chastisement grievous indeed. To Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth; and Allah hath power over all things.

~~~~~

اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ (جب فیصلہ کا وقت آئے گا اس وقت) ہم ان سے کہیں گے کہ لو، اب عذاب جہنم کا مزا چکھو، یہ تمہارے پانے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں "اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں، جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے (غیب سے آکر) آگ کھالے،" ان سے کہو: "تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آچکے ہیں، جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر (ایمان لانے کے لئے یہ شرط پیش کرنے میں) تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔

آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا، تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانو، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آکر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انھیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انھیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کئے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لئے

دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت

سب پر حاوی ہے۔

اللہ نے ان لوگوں کا کौل سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فکیر ہے اور ہم غنی ہیں انکی یہ باتیں بھی ہم لیکھ لینگے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناہک کتل کرتے رہے ہیں وہ بھی انکے نامہ-آمال میں ثبت ہے (جب فیصلے کا اس وقت) ہم ان سے کہیں گے کہ لو، اب اجاہ-جہنم کا مزا چکو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے جالیم نہیں ہے | جو لوگ کہتے ہیں، "اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی کربانی نہ کرے جس (گہب سے آکر) آگ خا ل |" ان سے کہو، "تمہارے پاس مومن پہلے بہت-سے رسول آ چکے ہیں، جو بہت-سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر (ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں) تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں کتل کیا؟" اب اے نبی، اگر یہ لوگ تمہیں ڈٹلاتے ہیں تو بہت-سے رسول تم سے پہلے ڈٹلائے جا چکے ہیں جو खुली-खुली نشانیاں اور سہیفے اور روشنی بخسنے والی کتابیں لائے تھے | آخر کار ہر شخص کو مرنے ہے اور تم سب اپنے-اپنے پورے اجر کیامت کے روز پانے والے ہو | کامیاب دہ-اسل وہ ہے جو وہاں آتش-دوڑ سے بچ جائے اور جہنم میں داخل کر دیا جائے | رہی یہ دنیا، تو یہ محض ایک جہیز ہے |

~~~~~

मुसलमानों! तुम्हें माल और जान दोनों की आजमाइशें पेश आकर रहेंगी, और तुम अहले-किताब और मुशरिकीन से बहुत-सी तकलीफ़देह बातें सुनोगे | अगर इन सब हालात में तुम सब्र और खुदातरसी की रविश पर कायम रहो तो यह बड़े हौसले का काम है | इन अहले-किताब को वह अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने इनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, इन्हें पोशीदा रखना नहीं होगा | मगर उन्होंने किताब को पसे-पुश्त डाल दिया और थोड़ी कीमत पर उसे बेच डाला | कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं | तुम उन लोगों को अंज़ाब से महफूज़ न समझो जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की तारीफ़ उन्हें हासिल हो जो फ़िल-वाके उन्होंने नहीं किए हैं | हकीकत में उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है | ज़मीन और आसमानों का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सबपर हावी है |